



فَمَا هُمْ بِغَنِيٍّ عَنِ التَّذَكُّرٍ كَرَّةٌ مُعْرِضٍ كَاهِمٌ حَمْرٌ مُسْتَنْفِرٌ



ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے رو گردال ہو رہے ہیں گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندیری)

سورة المدثر

اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَدْثُورُ (۱)

اے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو کپڑا پیٹھے پڑے ہو

فُمْ فَأَنْذِرْ (۲)

انٹھو اور ہدایت کرو

وَهَبْكَ فَكَبِرْ (۳)

اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو

وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ (4)

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)

اور ناپاکی سے دور ہو

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ (6)

اور (اس نیت سے) احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

اور اپنے پروردگار کیلئے صبر کرو

فَإِذَا نُقَرِّ في النَّاقُورِ (8)

جب صور پھونکا جائے گا

فَذَلِكَ يَوْمٌ مَيْتٌ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)

وہ جو مشکل کا دن ہو گا

عَلَى الْكَافِرِ يَنَغْبِيَ سِيرٌ (10)

یعنی کافروں پر آسان نہ ہو گا۔

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11)

ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا ثَمَدُودًا (12)

اور مال کثیر دیا۔

وَيَرَيْنَ شُهُودًا (13)

اور (ہر وقت اس کے پاس) حاضر رہنے والے (بیٹھے) دیئے

وَمَهَدُ لَهُ تَمْهِيدًا (14)

اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی

ثُمَّ يُطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15)

ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دے

كَلَّا

ایسا ہر گز نہیں ہو گا

إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِنَا عَنِيدًا (16)

یہ ہماری آئیتوں کا دشمن رہا ہے۔

سَأُرِهْقُهُ صَمْعُودًا (17)

ہم اسے صمود پر چڑھائیں گے

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ (18)

اس نے فکر کیا اور تجویز کی

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19)

یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20)

پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی

۲۱) نَظَرٌ

پھر تامل کیا

۲۲) عَبَسَ وَبَسَرَ

پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا

۲۳) أَذْبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ

پھر پشت پھیر کر چلا اور (قبول حق سے) غرور کیا

۲۴) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سُخْرَيْثُرُ

پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو (اگلوں سے) منتقل ہوتا آیا ہے

۲۵) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

(پھر بولا) یہ (خدا کا کلام نہیں بلکہ) بشر کا کلام ہے

۲۶) سَأَصْبِلِيهِ سَقْرَ

ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے

۲۷) وَمَا أَذْرَ الْكَمَاسَقْرُ

اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟

۲۸) لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ

(وہ آگ ہے کہ) نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی

۲۹) لَوَاحَةُ الْبَشَرِ

(اور) بدن کو جلس کر سیاہ کر دیگی

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)

اس پر انیس دار و غمہ ہیں

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مُلَائِكَةً

اور ہم نے دوزخ کے دار و غمہ فرشتے بنائے ہیں

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے

لَيَسْتَقِيقَنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

(او) اس لئے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا

اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں

وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

اور اس لئے کہ جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے اور (جو)

کافر (ہیں) کہیں کہ اس مثال (کے بیان کرنے) سے خدا کا مقصود کیا ہے؟

كَذَلِكَ يُخْسِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذُكْرٌ لِّلْبَشَرِ (31)

اور یہ توبت آدم کے لیے نصیحت ہے

كَلَّا وَالْقَمَرِ (32)

ہاں ہاں (ہمیں) چاند کی قسم

وَاللَّيْلِ إِذَا أَذْبَرَ (33)

اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34)

اور صبح کی جب روشن ہو

إِنَّهَا لِإِلَحْدَى الْكُبَرِ (35)

کہ وہ (آگ) ایک بہت بڑی (آفت) ہے

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ (36)

(اور) بنی آدم کے لئے موجب خوف

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَلَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37)

جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے

كُلُّ نَفْسٍ إِنَّمَا كَسْبَتُ رَاهِينَةً (38)

ہر شخص اپنے اعمال کے بد لے گرو ہے

إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (39)

مگر داہنی طرف والے (نیک لوگ)

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40)

(کہ) وہ باغ ہائے بہشت میں (ہوں گے اور) پوچھتے ہوں گے

عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41)

(یعنی آگ میں جلنے والے) گنہگاروں سے

مَالَكُمْ فِي سَقَرَ (42)

کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟

قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُحَصَّلِينَ (43)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے

وَلَمْ نَكُنْ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ (44)

اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے

وَلَكَانُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)

اور اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے) انکار کرتے تھے۔

وَلَكَانُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (47)

یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی

فَمَا أَنْتَ قَعْدٌ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)

تو (اس حال میں) سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ منہ دیگی

فَمَا هُمْ عَنِ التَّدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)

انکو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردां ہو رہے ہیں

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)

گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں

فَرَّتُ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51)

(یعنی) شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنَشَّرًا (52)

اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے

كَلَّا

ایسا ہر گز نہیں ہو گا

بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53)

حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرَةٌ (54)

کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرُهُ (55)

توجہ چاہے اسے یاد رکھے

وَمَا يَذِنُ لِكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ^ج

اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب خدا چاہے

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)

وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com